



## سوال

(171) مقتدی کی نماز کا امام کی نماز پر انحصار نہیں

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اکثر اہل حدیث حضرات بریلوی ائمہ کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے۔ بلکہ کئی دہائیوں سے حضرات کے پیچھے بھی۔ حالانکہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کی نماز کا امام کی نماز پر انحصار نہیں۔ کیا قبر میں حشر میں کہیں حنفی وہابی کا سوال ہوگا؟ کیا مولویوں نے عوام کو گورکھ دھندے میں نہیں ڈال رکھا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

شرعی اصطلاح میں مقتدی اسی کو کہا جاتا ہے۔ جو امام کی اقتداء میں ہو البتہ نیت کے اعتبار سے بعض امور میں اختلاف ظاہری اقتداء کے منافی نہیں آپ کی یہ بات درست ہے کہ حشر میں نسبتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لئے عقیدے کی درستی اولین شرط ہے علماء پر کلی انحصار کی بجائے بہتر ہے کہ تلاش حق کے لئے خود جدوجہد کریں۔ رب کریم کا وعدہ ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ سُبُلَنَا ... ۶۹ ... سورة العنکبوت

"اور جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔"

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ شناسیہ مدنیہ

ج 1 ص 443

محدث فتویٰ